

Deu

Chapter 18

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 **לֹא** - **יְהוָה** **לְכַהֲנִים** **הַלְוִיִּם** **כָּל** - **שִׁבְט** **לְוִי** **חֶלֶק** **וַיַּחֲלֶק** **עִם** - **יִשְׂרָאֵל**
 نہیں - ہو گا کابنوں کے لیے لایوں کا حصہ اور میراث ساتھ - اسرائیل کے
[H3808](#) [H1961](#) [H3548](#) [H3881](#) [H3605](#) [H7626](#) [H3878](#) [H5159](#) [H3478](#)

אֲשִׁי **יְהוָה** **וַיַּחֲלֶק** **יִאכֹלֶנּוּ:**
 آگ کی قربانیاں یہوواہ کی اور اُس کی میراث وہ کھائیں گے
[H0801](#) [H3068](#) [H5159](#) [H0398](#)

میں قربانیوں دیگر اور والی جلنے وہ ہیں۔ شامل بھی امام میں جس کے قبیلے کے لایوں سوائے گا ملے علاقہ اپنا کا اُس میں میراث کو قبیلے پر کے اسرائیل کریں۔ گزارہ کر لے حصہ اپنا سے

2 **וַיַּחֲלֶק** **لֹא** - **יְהוָה** **לָו** **בְּקֶרֶב** **אֲחָיו** **יְהוָה** **הוּא** **נַחֲלָתוֹ** **כְּאִשֶׁר**
 اور میراث نہیں - ہو گی - اُس کے لیے درمیان اُس کے - بھائیوں کے یہوواہ وہ اُس کی - میراث ہے جیسا
[H5159](#) [H3808](#) [H1961](#) [H7130](#) [H0251](#) [H3068](#) [H1931](#) [H5159](#)

דְּבַר - **לָו:** **ס**
 اُس نے کہا - اُسے
[H1696](#)

بے کہا کے کر وعدہ نے اُس یہ گا۔ ہو حصہ موروثی کا اُن خود رب بلکہ گی ہو نہیں زمین موروثی طرح کی دوسروں پاس کے اُن

3 **וְזֶה** **יְהוָה** **מִשְׁפַּט** **הַכֹּהֲנִים** **מֵאֵת** **הָעַם** **מֵאֵת** **אֲבֹתָיו** **הַזִּבְחָה** **אִם** - **נְשׂוֹר**
 اور یہ ہو گا حق کابنوں کا سے - لوگوں سے - قربانی کرنے والوں قربانی چاہے - بیل
[H2088](#) [H1961](#) [H4941](#) [H3548](#) [H0854](#) [H0854](#) [H2076](#) [H2077](#) [H7794](#)

אִם - **שָׁה** **וַיִּתֵּן** **לְכֹהֵן** **הַזֶּרַע** **וַיַּחֲלֶק** **וַיַּחֲקֶדֶה:**
 چاہے - بھیڑ اور وہ دے کابن کو کندھا اور جبڑے اور اوچڑی
[H7716](#) [H5414](#) [H3548](#) [H2220](#) [H3895](#) [H6896](#)

بے حق کا ملنے اوچڑی اور جبڑے شانہ، کا اُس کو اماموں تو جائے کیا قربان کو بھیڑ یا بیل کسی بھی جب

4 **רֵאשִׁית** **הַגֶּנֶז** **הַזֵּיתוֹן** **וַיִּצְהַרְךָ** **וְרֵאשִׁית** **גֶּז** **צֹאנֶךָ** **תִּתֶנּוּ** **לָו:**
 پہلا تیرے - اناج کا تیری - مے کا اور - تیرے - تیل کا اور - پہلا اُون تیری - بھیڑوں کا تو - دے - اُسے
[H7225](#) [H1715](#) [H8492](#) [H3323](#) [H7225](#) [H1488](#) [H6629](#) [H5414](#)

اُون بوئی کتری پہلی کی بھیڑوں اور تیل کا زیتون مے، اناج، یعنی دینا اُنہیں بھی پہل پہلا کا فصلوں اپنی

5 **כִּי** **בֹו** **בְּתוֹר** **יְהוָה** **אֵלֹהֶיךָ** **מִכָּל** - **שִׁבְטֶיךָ** **לְעֹמֵד** **לְשֶׁרֶת** **בְּשֵׁם**
 کیونکہ اُسے چنا یہوواہ نے تیرے - خدا سب سے - تیرے - قبیلوں کھڑے - ہونے کو خدمت کرنے کو نام سے -
[H0977](#) [H3068](#) [H0430](#) [H3605](#) [H7626](#) [H5975](#) [H8334](#) [H8034](#)

יְהוָה **הוּא** **וּבְנָיו** **כָּל** - **הַיָּמִים:** **ס**
 یہوواہ کے وہ اور - اُس کے - بیٹے سب - دنوں
[H1931](#) [H3068](#) [H3605](#) [H3117](#)

کی اُن اور کی اُن لٹے کے ہمیشہ یہ ہے۔ چنا لٹے کے کرنے خدمت میں نام کے رب میں مقدس ہی کو قبیلے کے لایوں سے میں قبیلوں تمام تیرے نے رب کیونکہ گی۔ رہے داری ذمہ کی اولاد

6	וְכִי- اور-جب-	יָבֵא آئے	הַלְלוּ لاوی	מֵאֲחֶר کسی-سے	שְׁעָרֶיךָ تیرے-پہانکوں-سے	מִכָּל- سب-سے	יִשְׂרָאֵל اسرائیل-کے	אֲשֶׁר- جہاں-	הוּא وہ	נָר رہتا-تھا	שָׁם وہاں
		H0935	H3881	H0259	H8179	H3605	H3478	H1931	H8033		

וּבָא اور-آئے	בְּכָל- ساتھ-سب-	אֶנֶת خوابش	נִפְשׁוֹ اُس-کی-جان-کی	אֶל- تک-	הַמִּקְדָּשׁ جگہ	אֲשֶׁר- جو-	יִבְחַר چُنے-گا	יְהוָה: یہوواہ
H0935	H3605	H0185	H5315	H0413	H4725	H0977	H3068	

گاچنے لئے کے مقدس رب جو چاہے آنا جگہ اُس کوئی سے میں اُن اگر گے۔ رہیں میں شہروں مختلف کے اسرائیل بلکہ نہیں پاس کے مقدس لاوی کچھ

7	וְשִׁלַּת اور-وہ-خدمت-کرے	בְּשֵׁם نام-سے	יְהוָה یہوواہ	אֲלֵהֶיוּ اُس-کے-خدا-کے	כָּכָל- مانند-سب-	אֶחָיו اُس-کے-بھائیوں	הַלְלוּם لاویوں	הַעֲמֻדִים کھڑے-ہوئے	שָׁם وہاں
	H8334	H8034	H3068	H0430	H3605	H0251	H3881	H5975	H8033

לְפָנָי سامنے	יְהוָה: یہوواہ-کے
H6440	H3068

ہے۔سکتا کر خدمت میں نام کے خدا اپنے رب میں مقدس طرح کی لاویوں والے کرنے خدمت کے وہاں وہ تو

8	חֶלֶק حصہ	כִּחְלֹק مانند-حصے-کے	יֹאכֵלוּ وہ-کھائیں	לֶבֶד علاوہ	מִמְכָרָיו اُس-کی-فروختگی-کے	עַל- طرف-سے-	הָאֲבוֹת: آباؤجداد-کے	ס
		H4398	H0905	H4465	H0001			

نہیں۔یا ہوں گئے مل پیسے سے بیچنے ملکیت خاندانی اُسے خواہ ہے، ملتا حصہ کا لاویوں برابر کے دوسروں سے میں قربانیوں اُسے

9	כִּי جب	אֲתָהּ تُو	בָּא آئے	אֶל- میں-	הָאֲרֶץ زمین	אֲשֶׁר- جو-	יְהוָה یہوواہ	אֶלֶיךָ تیرا-خدا	נָתַן دیتا-ہے	לָךְ تجھے	לֹא- نہیں-	תִּלְמֹד تُو-سیکھے
		H0935	H0413	H0776	H3068	H0430	H5414	H3808	H3925			

לַעֲשׂוֹת کرنے-کو	כְּתוּעָבֹת مانند-مکروبات	הַגּוֹיִם قوموں-کے	הָהֵם: اُن
	H8441	H1992	

اپنانا۔نہ دستور گھنوں کے قوموں والی رہنے کی وہاں تو ہے رہا دے تجھے خدا تیرا رب جو گا ہو داخل میں ملک اُس تو جب

10	לֹא- نہیں-	יִמְצָא پایا-جائے	בְּךָ تجھ-میں	מַעֲבִיר گزرنے-والا	בְּנוֹ- اپنے-بیٹے-	וּבָתּוֹ یا-بیٹی-کو	בְּאֵשׁ آگ-سے	קִסָּם فال-گیر	קְסָמִים فالوں	מַעֲוָג شگون-لینے-والا
	H3808	H4672	H1323	H0784	H7081	H7080				

וּמְנַחֵשׁ اور-سانپ-ڈیکھنے-والا	וּמְכַשֵּׁף: اور-جادوگر
H5172	H3784

کرے۔جادوگری یا نکالے شگون یا فال نہ کرے، دانی غیب کوئی نہ جلائے۔ نہ پر طور کے قربانی کو بیٹی یا بیٹے اپنے بھی کوئی درمیان تیرے

11	וְחָבַר اور-منتر-پڑھنے-والا	חָבַר منتر	וְשָׂאֵל اور-پوچھنے-والا	אוֹב جنات-سے	וַיְדַעְנִי اور-جانکار-سے	וְדָרַשׁ اور-پوچھنے-والا	אֶל- سے-	הַמְּתִים: مُردوں
	H2266	H2267	H7592	H0178	H3049	H1875	H0413	H4191

ہے۔منع سخت کرنا رابطہ سے رُوحوں کی مُردوں یا بتانا حال کا قسمت کرنا، حاضرات پڑھنا، منتر طرح اِسی

12	כִּי- کیونکہ-	תוּעָבֹת مکروہ	יְהוָה یہوواہ-کی	כָּל- سب-	עֲשָׂה کرنے-والا	אֶלֶּה یہ	וּבְגִלְלָהּ اور-وجہ-سے	הַתוּעָבֹת مکروبات	הָאֵלֶּה اِن	יְהוָה یہوواہ	אֶלֶיךָ تیرا-خدا
		H8441	H3068	H3605	H0428	H1558	H8441	H0428	H3068	H0430	

מורִישׁ نکالتا-ہے	אוֹתָם انہیں	מִפְּנֵיךָ: تیرے-سامنے-سے
H3423	H0853	H6440

گا۔دے نکال کو قوموں اُن سے آگے تیرے خدا تیرا رب سے وجہ کی دستوروں مکروہ ہی اِن ہے۔ گھن قابل میں نظر کی رب وہ کرے ایسا بھی جو

13	תָּמִים	הַהֲזֵה	עִם	יְהוָה	אֶלְהֵיךָ :	ס
	کامل	ٹو-بو	ساتھ	یہوواہ	تیرے-خدا-کے	.
	H8549	H1961		H3068	H0430	

ری۔ بے قصور سامنے کے خدا اپنے رب ٹو کہ بے لازم لئے اس

14	וְכִי	הַגּוֹיִם	הָאֱלֹהִים	אֲשֶׁר	אֵתָהּ	יִזְרַשׁ	אוֹתָם	אֱלֹ-	מַעֲנִיִּים	וְאֵל-
	کیونکہ	قومیں	یہ	جنہیں	ٹو	قبضہ-کرتا-ہے	انہیں	کی-	شگون-لینے-والوں	اور-کی-
			H0428		H3423	H0853	H0413		H0413	

קִסְמִים	יִשְׁמְעוּ	וְאֵתָהּ	לֹא	כֵן	נָתַן	לָךְ	יְהוָה	אֶלְהֵיךָ :
فال-گیروں	سنتی-ہیں	اور-تجھے	نہیں	ایسا	دیا	تجھے	یہوواہ-نے	تیرے-خدا
H7080	H8085		H3808	H5414	H3068	H0430		

دی۔ نہیں اجازت کی کرنے ایسا تجھے نے خدا تیرے رب لیکن ہیں۔ کرتے دانی غیب اور نکالتے فال جو ہیں سنتی کی اُن وہ بے والا نکالنے ٹو کو قوموں جن

15	נְבִיא	מַקְרָבָךְ	מֵאֲחֵיךָ	כְּמֹנִי	יָקִים	לָךְ	יְהוָה	אֶלְהֵיךָ	אֵלֶיךָ
	نبی	تیرے-درمیان-سے	تیرے-بھائیوں-سے	میری-مانند	اُٹھائے-گا	تیرے-لیے	یہوواہ	تیرا-خدا	اُسی-کی
	H5030	H7130	H0251	H3644			H3068	H0430	H0413

תִּשְׁמְעוּן :
تم-سنو-گے
[H8085](#)

سنا۔ کی اُس گا۔ کرے برپا کو نبی جیسے مجھ سے میں بھائیوں تیرے واسطے تیرے خدا تیرا رب

16	כָּכָל	אֲשֶׁר-	שְׂאֵלָתְךָ	מֵעַם	יְהוָה	אֶלְהֵיךָ	בְּחֻלְבִּים	בְּיָוֵם	הַקְהָל	לְאַמֵּר
	مطابق-سب-کچھ	جو-	ٹو-نے-مانگا	سے-	یہوواہ	تیرے-خدا	حوریب-میں	دن-میں	اجتماع-کے	کہتے-ہوئے
	H3605		H7592		H3068	H0430	H2722	H3117	H6951	H0559

لֹא	אֲנִיךָ	לְשִׁמְעַי	אֶת-	קוֹלִי	יְהוָה	אֶלְהֵי	וְאֶת-	הָאֵשׁ	הַגְּדֹלָה	הַזֹּאת
نہیں	میں-پھر-کروں-گا	سننے-کو	کو-	آواز	یہوواہ	میرے-خدا-کی	اور-کو-	آگ	بڑی	اس
H3808	H3254	H8085	H0853	H3068	H0430	H0853	H0784		H2063	
لֹא-	אֲרָאָהּ	עוֹד	וְלֹא	אֲמֹת:						
نہیں-	میں-دیکھوں-گا	پھر	اور-نہیں	میں-مروں						
H3808	H7200	H5750	H3808	H4191						

یہ نہ چاہتا، سنا آواز کی خدا اپنے رب مزید میں نہ کی، درخواست سے خدا اپنے رب خود نے ٹو وقت ہوتے جمع پر پہاڑ سینا یعنی حورب کیونکہ گا۔ جاؤں مر ورنہ ہوں، چاہتا دیکھنا آگ ہوئی بھڑکتی

17	וַיֹּאמֶר	יְהוָה	אֵלַי	הֵיטִיבוּ	אֲשֶׁר	דְּבַרוּ:
	اور-کہا	یہوواہ-نے	مجھ-سے	انہوں-نے-اجھا-کہا	جو	انہوں-نے-کہا
	H0559	H3068	H0413	H3190		H1696

بے۔ ٹھیک وہ ہیں کہتے وہ کچھ جو کہا، سے مجھ نے رب تب

18	נְבִיא	אֲקִים	לָהֶם	מַקְרָב	אֲחֵיהֶם	כְּמוֹד	וְנִתְּנִי	דְּבַרִּי
	نبی	میں-اُٹھاؤں-گا	اُن-کے-لیے	درمیان-سے	اُن-کے-بھائیوں-کے	تیری-مانند	اور-میں-دوں-گا	میرے-کلام
	H5030		H1992	H7130	H0251	H3644	H5414	H1697

כְּפִיו	וְדַבַּר	אֲלֵיהֶם	אֵת	כָּל-	אֲשֶׁר	אֲצַנְנֶנּוּ :
اُس-کے-منہ-میں	اور-وہ-کہے-گا	اُن-سے	کو	سب-	جو	میں-اُسے-حکم-دوں-گا
H6310	H1696	H0413	H0853	H3605		H6680

گا۔ پہنچائے تک اُن بات ہر میری وہ اور گا، دوں ڈال میں منہ کے اُس الفاظ اپنے میں گا۔ کروں کھڑا نبی جیسا تجھ سے میں اُن میں آئندہ

19	וְהָיָה הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא יִשְׁמַע אֶל-דְּבָרֵי אֲשֶׁר יִדְבֹר יְדָבָר וְהָיָה כִּשְׂמִי אֲנֹכִי	اور-ہو-گا	وہ-مرد	جو	نہیں-	سنے-گا	کی-	میرے-کلام	جو	وہ-کہے-گا	میرے-نام-سے	میں
	H1961	H0376	H3808	H8085	H0413	H1697	H8034	H0595				

אֲדַרְשׁ מַעֲמוֹ: حساب-لوں-گا اُس-سے
[H1875](#)

گا۔ کروں طلب جواب خود میں سے اُس گا سننے نہیں جو سن۔ کی اُس تُو کہ بے لازم تو کہے کچھ میں نام میرے نبی وہ جب

20	אֲדָ לִיכֵן הַנְּבִיא אֲשֶׁר יִזְדָּ גִסְתָּחִי-כֹרֶ בּוֹלְנֵי-כּוֹ לְדָבָר דְּבָר בְּשֵׁמִי אֵת אֲשֶׁר לֹא	لیکن	وہ-نبی	جو	گستاخی-کرے	بولنے-کو	بات	میرے-نام-سے	کو	جو	نہیں-
	H0389	H5030	H2102	H1696	H1697	H8034	H0853	H3808			

	צוֹיִתִּיו מִי-נֶ-אִסֶּ-חֵקֵם-דִּבָּ בּוֹלְנֵי-כּוֹ אֲשֶׁר יִדְבֹר בְּשֵׁם אֱלֹהִים אַחֲרֵיהֶם וַיָּמָת הַנְּבִיא הַהוּא:	میں-نے-اُسے-حکم-دیا	بولنے-کو	اور-جو	بولے	نام-سے	معبودوں-کے	دوسرے	تو-وہ-مرے	وہ-نبی	وہ
	H6680	H1696	H8034	H1696	H430	H0312	H4191	H5030	H1931		

کو نبی اُس طرح اسی ہے۔ دینی موت سزائے اُسے تو تھا کہا نہیں کو بتائے اُسے نے میں جو کہے بات کوئی میں نام میرے کر ہو گستاخ نبی کوئی اگر لیکن کرے۔ بات میں نام کے معبودوں دیگر جو بے دینا کر بلاک بھی

21	וְכִי תֹאמְרוּ בְלִבְבְּכֶם אֵיכָה נִדְעַ אֶת-הַדְּבָר אֲשֶׁר לֹא-דָבָר וְהוּא יְהוָה:	اور-جب	اے-دل-میں	کیسے	ہم-جانیں	کو-	بات	جو	نہیں-	اُسے-کہا	یہوواہ-نے
	H0559	H3824	H3045	H0853	H1697	H3808	H1696	H3068			

نہیں۔ یا بے سے طرف کی رب واقعی کلام کوئی کہ ہیں سکتے کر معلوم طرح کس ہم کہ آئے ابھر سوال میں ذہن تیرے شاید

22	אֲשֶׁר יִדְבֹר הַנְּבִיא בְשֵׁם יְהוָה וְלֹא-יְהוָה הַדְּבָר וְלֹא יְהוָה יִבְנֶה אֵת הַבַּיִת וְלֹא יִבְנֶה אֵת הַבַּיִת הַהוּא הַדְּבָר	جو	بولے-گا	وہ-نبی	نام-سے	یہوواہ-کے	اور-نہیں-	ہو	بات	اور-نہیں	آئے	یہ	بات
	H1696	H5030	H8034	H3068	H3808	H1961	H1697	H3808	H0935	H1931	H1697		

	אֲשֶׁר לֹא-דָבָר יְהוָה בְּזִדּוֹן גִּסְתָּחִי-כֹרֶ אֵת הַבַּיִת לֹא תִבְנֶה מִמֶּנּוּ: ס	جو	نہیں-	اُسے-کہا	یہوواہ-نے	گستاخی-سے	اُسے-بولا	وہ-نبی-نے	نہیں	تُو-ڈرے	اُس-سے	
	H3808	H1696	H3068	H2087	H1696	H5030	H3808					

کر گستاخی نے اُس بلکہ بے نہیں سے طرف کی رب بات کی نبی کہ بے مطلب تو جائے ہو نہ پورا وہ اور کہے کچھ میں نام کے رب نبی اگر کہ بے یہ جواب ڈرنا۔ مت سے اُس میں صورت اِس ہے۔ کی بات کے